



146362 - کسی غریب کو اپنا قرضہ وصول کرنے کیلئے بھیجے اور اسے زکاہ میں شمار کر لیے؟

سوال

میں نے ایک شخص کو قرضہ دیا ہے تو کیا میں اس کی طرح کسی غریب آدمی کو اپنی رقم وصول کرنے کیلئے بھیجوں اور اسے زکاہ میں شمار کر سکتا ہوں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

قرضہ معاف کر کے اسے زکاہ میں شمار کرنا صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے زکاہ ادا ہوگی؛ کیونکہ ادا ہونے کیلئے شرط یہ ہے کہ فقیر اور غریب آدمی کے قبضے میں زکاہ کا مال آئے، جبکہ قرضہ معاف کرنا مال کو غریب کے ہاتھ میں تھمانے کے مفہوم میں نہیں آتا، فرمان باری تعالیٰ ہے:

(إِنْ تُبَدِّلُ الصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)

ترجمہ: اگر تم صدقات ظاہری طور پر دو تو یہ اچھا ہے، اور اگر تم اسے خفیہ تو پھر فقراء میں تقسیم کرو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ [البقرة: 271]

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں:

”اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ : زکاہ کی ادائیگی اس وقت تک معتبر نہیں ہو گی جب تک فقیر کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ“ یعنی تم فقراء کو پہنچاؤ اور انہیں دو“ مزید تفصیل کیلئے سوال نمبر: (13901) اور (119113) کا مطالعہ کریں۔

لیکن جو صورت سوال میں مذکور ہے اس میں قرضہ معاف کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک غریب شخص کو آپ اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں کہ آپ میری رقم فلان سے جا کر لے لو، چنانچہ اسے زکاہ میں شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح زکاہ بھی ادا ہو جائے گی۔

لیکن اگر اس غریب شخص کو آپ کے مقروض نے ثال مٹول کرتے ہوئے ، یا تنگ دستی کی وجہ سے رقم نہ دی تو آپ کے ذمہ زکاہ ادا کرنا باقی رہے گا، کیونکہ زکاہ اسی وقت ادا ہوگی جب فقیر کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔

چنانچہ سرخسی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”اگر قرضہ کی رقم کسی فقیر پر صدقہ کرتے ہوئے اس فقیر کو کہا کہ : “تم فلاں سے رقم لے لو ” اور نیت زکاۃ کی ادائیگی کی ہو تو اس سے زکاۃ ادا ہو جائے گی؛ کیونکہ یہ فقیر آدمی قرضہ کی رقم وصول کرنے کیلئے قرض خواہ کا وکیل اور نمائندہ ہے، تو گویا کہ موکل نے خود رقم وصول کر کے اس پر صدقہ کیا ہے اور اسے زکاۃ میں شمار کر لیا--- ” انتہی
والله اعلم۔